

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 185-188

شَهْرٌ	شَهِدَ	فَ+لٌ+يَصُمْ+هُ	فَ+عِدَّةٌ	يُرِيدُ
ش ہ ر	ش ہ د	حرف+ص و م+ضمیر	حرف+ع د د	ر و د
مہینہ	حاضر ہو	پس + چاہیے + کہ وہ روزے رکھے + اس کے	تو گنتی پوری کرنا ہے	چاہتا ہے
Month	witnesses	then he should fast in it	then a prescribed number	Intends

الْيُسْرَ	الْعُسْرَ	لِ+تُكْمِلُوا	أُ+جِبُّ	دَعْوَةَ
ی س ر	ع س ر	حرف+ک م ل	ضمیر+ج و ب	د ع و
آسانی	تنگی	تاکہ + تم مکمل کرو	میں + جواب دیتا ہوں	پکار کا۔ دعا کا
The ease	The hardship	so that you complete	I respond	(to the) invocation

الدَّاعِ	دَعَانِ	فَ+لٌ+يَسْتَجِيبُوا	أَحِلَّ	الصَّيَامِ
د ع و	د ع و + ضمیر	حرف + ج و ب	ح ل ل	ص و م
پکارنے والے کی	وہ پکارے مجھے	پس + چاہیے + کہ وہ بات مانیں	حلال کیا گیا	روزوں کو
the supplicant	he calls Me	So let them respond	Permitted	Fasting

الرَّفْثُ	تَ+خَتَانُونَ	بَشِرُو+هِنَّ	أَبْتَغُوا	الْخَيْطُ
ر ف ث	ضمیر + خ و ن	ب ش ر + ضمیر	ب غ ي	خ ي ط
رغبت کرنا	تم + خیانت کر رہے	مباشرت کرو + ان سے	تلاش کرو	دھاگہ
The approach	Deceive	Have relations with them	Seek	the thread

الْأَبْيَضُ	الْأَسْوَدُ	عَكِفُونَ	تَدُلُوا	الْحُكَّامُ
ب ي ض	س و د	ع ک ف	د ل و	ح ک م
سفید	سیاہ	اعتکاف کرنے والے ہو	تم پہنچاتے ہو	حاکموں کے
White	Black	(are) secluded	present	the authorities